

المبحث: الرياضيات
الصف: الثاني العلمي
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١١ / ١
نصف الفصل: الامتحان:



دولة فلسطين
وزارة التربية و التعليم
مديرية التربية و التعليم / طولكرم
مدرسة ذكور شهداء بلعا الثانوية

القسم الاول: يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة وعلى الطلاب الاجابة عنها جميعها
مجموع العلامات (٨٠)

(٢١ علامة)

السؤال الأول:- اكتب رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة:-

(١) اذا كان متوسط التغير في الاقتران U (س) على الفترة $[٤١; ٤١]$ يساوي (٤) وكان $U(١) + U(٤) = ٢$ ، جد مقدار التغير في الاقتران

هـ (س) = $U(س)$ على نفس الفترة ؟

(أ) ٤ (ب) ١٢ (ج) ٢٤ (د) ٤٨

(٢) اذا كان $U(س) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{٢}{س} , س \geq ٢ \\ \ln(س) + ٢ , س < ٢ \end{array} \right.$ وكان $U(س)$ قابلاً للاشتقاق على مجاله ، جد قيمة الثابت ب ؟

(أ) ٢ - (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٤ -

(٣) اذا كان $U(س) = \sqrt{١+٢س}$ ، $٢ + ٣س = ٢٤$ ، U قابلاً للاشتقاق على مجاله ، جد $U'(٣)$ ؟

(أ) ١٦ (ب) ٢٩ (ج) ٤٨ (د) ١٤٤

(٤) اذا كان $س = \frac{٢١٥}{٤٨}$ ، $\left[\frac{٢١٥}{٤٨} , ٣ \right]$ ، فإن $\frac{٢١٥}{٤٨} = \frac{٢١٥}{٤٨}$

(أ) $٢١٥ + ٣س$ (ب) $٢١٥ - ٣س$ (ج) $٣س - ٢١٥$ (د) $٢١٥ + ٣س$

(٥) جد $\lim_{س \rightarrow ١} \frac{٢س - ١}{١ - ٢س}$ ؟

(أ) ٢ (ب) $\frac{٢}{١}$ (ج) هـ (د) صفر

(٦) عدد النقط الحرجة للاقتران $U(س) = \ln(س) + ٢س - ٢$ ، المعروف على مجاله هي:

(أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

(٧) الاحداث الصادي للنقطة التي يكون عندها المماس لمنحنى العلاقة $(٣ - س) = ٢س + ٤س + ٢س - ٢$ هي:

(أ) ٤ - (ب) ٣ - (ج) ٢ - (د) ٢

(٨) اذا كان $U(س)$ متصلًا على $س$ وكان $U'(س)$ متزايدًا على $س$ بحيث $U'(٢) = ٠$ ، فإن النقطة $(٢, U(٢))$ بالنسبة لمنحنى

$U(س)$ هي نقطة :

(أ) انعطاف (ب) قيمة عظمى محلية (ج) قيمة صغرى محلية (د) انعطاف افقي

٩) إذا كان $v = \sqrt{x}$ ، فإن $\frac{dv}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

أ) $\sqrt{x}$ ب) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ج) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ د) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

١٠) قف جسم رأسياً من سطح الأرض لأعلى حسب العلاقة $s = 20 - 5t^2$ ، حيث s : المسافة بالأمتار ، t : الزمن بالثواني ، فإن سرعة الجسم عندما تتساوى السرعة والتسارع عددياً تساوي :

أ) ٢٠ م/ث ب) ٢٠ م/ث ج) ١٠ م/ث د) ١٠ م/ث

١١) إذا كانت زاوية الانعطاف لمنحنى الاقتران $u(s) = s^3 - 3s^2 + 1$ هي $(\frac{\pi}{3})$ ، جد قيمة الثابت A ؟


أ) ٣ ب) ٢ ج) ٢ - د) ١ -

١٢) القيمة العظمى المطلقة لمنحنى $u(s) = s^3 + 3s^2 + 1$ هي $[\frac{\pi}{2}, 0]$ هي

أ) ٢ ب) ١,٥ ج) ١ د) ١,٢٥

١٣) إذا كان $u(s)$ اقتران متناقص في الربع الثالث وكانت $u''(s)$ موجودة وكان $u'(s) = \frac{1}{s}$ فإن منحنى $u(s)$

أ) متناقص على مجاله ب) متزايد على مجاله ج) موجب على مجاله د) لا يوجد به تقعر



١٤) في الشكل المجاور يكون $u'(s) = 0$ ، $u''(s) > 0$ عند $s =$

أ) ب ب) ج ج) د د) هـ

المسألة الثانية :- (١٥ علامة)

أ) إذا كان $u(s) = s^3 - \frac{3}{2}s^2 + 1$ ، جد ما يلي :-

١) فترات التزايد والتناقص لمنحنى $u(s)$ ؟ ٢) القيم القصوى ونوعها لمنحنى $u(s)$ ان وجدت ؟ (٩ علامات)

ب) إذا كان $u(s) = 3s^3 + 2s^2 + 1$ ، $u'(s) = \frac{1}{s}$ ، $u''(s) = -\frac{1}{s^2}$ ، جد قيمة الثابت A ؟ (٦ علامات)

المسألة الثالثة :- (١٥ علامة)

أ) إذا كان المستقيم $s = 1 - v$ ، $v = 0$ ، $\frac{ds}{dv} = \frac{3-2s}{1+s}$ عندما $s = 0$ ، جد قيمة كل من

الثابتين A ، B ؟ (٨ علامات)

ب) إذا كان $s = 1 + v^3$ ، $s = e^2 - 2e$ ، $\frac{ds}{dv} = e$ ، $v = 2$ ، $s < 0$ ؟ (٧ علامات)

السؤال الرابع :- (١٩ علامة)

أ) إذا كان، $u = (s) = 2 - s$ ، $s = 3$ ، $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} \right]$ جد،

(١) فترات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى $u(s)$ ؟ (٢) نقط الانعطاف إن وجدت لمنحنى $u(s)$ ؟ (٧ علامات)

ب) إذا كان $u = \frac{2s^2 - 3s + 4}{s^3}$ ، جد قيمة الثابت λ ؟ (٥ علامات)

ج) أ ب ج مثلث متساوي الساقين طول كل من ساقيه أ ب، ب ج (٥) سم وطول القاعدة ب ج = (٨) سم جد مساحة أكبر مثلث يمكن رسمه داخل المثلث أ ب ج بحيث قاعدته توازي قاعدة المثلث ب ج ورؤوسه على اضلاع المثلث أ ب ج ؟ (٧ علامات)

القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب الإجابة على سؤال واحد فقط

السؤال الخامس :- (١٠ علامات)

أ) إذا كان $u = (s)$ اقتران كثير حدود من الدرجة الثالثة بحيث $u'(3) = (3)' = 1$ ، $u'(1) = 0$ ، وكان $u''(s)$ يمر بالنقاط $(2, 2)$ ، $(0, 2)$ ، $(-2, 0)$ ، جد

(١) فترات التقعر للأعلى وللأسفل لمنحنى $u(s)$ ؟ (٢) فترات التزايد والتناقص لمنحنى $u(s)$ ؟ (٥ علامات)
ب) قنف جسم رأسياً لأعلى من سطح عمارة بحيث أن بعده عن سطح الأرض يعطى بالعلاقة $u = (h) = 1 + 10h - 5h^2$ ، حيث u : المسافة بالأمتر، h : الزمن بالثواني، جد:


(١) قيمة الثابت λ حيث أن أقصى ارتفاع يصله الجسم من سطح العمارة هو (٨٠) م؟
(٢) سرعة الجسم عندما يكون تحت مستوى سطح العمارة بـ (٤٥) م؟

السؤال السادس :- (١٠ علامات)

أ) $u = (s)$ اقتران متحنه في الربع الرابع له قيمة عظمى محلية عند $s = 1$ ، $h = (s)$ اقتران متحنه في الربع الأول له قيمة صغرى عند $s = 1$ ، اثبت أن الاقتران $g(s) = (u \times h)(s)$ له قيمة عظمى محلية عند $s = 1$ حيث أن $u''(s) < 0$ ، $h''(s) > 0$ موجبتين ولا تساويان الصفر ؟ (٥ علامات)

ب) إذا كان $h'' = h' + h$ اثبت أن $\frac{h'}{h} = \frac{h}{h'}$ ؟ (٥ علامات)

مدير المدرسة: مهند قاسم



معلم المادة: عوض محمد

الإجابة المتوقعة للإمتحان
 نصف الفصل ١٢ ساعة ١٢/١٢

س١ ① $12 = \frac{10\Delta}{5\Delta} = \frac{(1)10 - (2)10}{1-2} = \frac{(1)10 - (2)10}{1-2} = \frac{(1)10 - (2)10}{1-2}$

② $\Delta = (1)10 - (2)10 = (1)10 - (2)10 = (1)10 - (2)10$
 $\Delta = 2 \times 12 =$

③ $P + Q = \frac{Q}{P} \Rightarrow \frac{P}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

④ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$
 $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑤ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

$1+2=4$

$\boxed{2=0}$

⑤

$122 = 17 \times 9 = (3)10$

⑥ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑦ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑦

⑧ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑨ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑩ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑪ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑫ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑬ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

⑭ $\frac{Q}{P} = \frac{Q}{P} = \frac{Q}{P}$

$\therefore x = -\infty \Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{-\infty} = \sqrt{-1} = i$ $\Rightarrow x = -\infty \Rightarrow \sqrt{x} = i$ (v)
 $\frac{1}{x} = \frac{1}{-\infty} = 0$ $\Rightarrow \frac{1}{x} = 0$ $\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{0}{\infty} = 0$ $\Rightarrow \frac{1}{x} = 0$
 $\frac{1}{x} = 0$ $\Rightarrow \frac{1}{x} = 0$ $\Rightarrow \frac{1}{x} = 0$ $\Rightarrow \frac{1}{x} = 0$

$$\frac{1}{r} = \cos \theta$$

$$1 = \frac{1}{\sum} X(r - \omega) e \quad \leftarrow 1 = \frac{1}{\omega} (r - \omega) e$$

$$\boxed{C = OP} \Leftrightarrow 1 = r + OP - n$$

⑤ $\boxed{C=OP} \Rightarrow 1 = 3 + OP - \Rightarrow$
 ⑥ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$

→ $N^{\circ}(C) \rightarrow N^{\circ}(C) \rightarrow N^{\circ}(C)$ سے $(C) \rightarrow (C)$ میں صفحہ محلے

$$\frac{\delta S}{\delta \psi} = 0 \quad \delta = 0 \quad \delta V = 0 \quad (9)$$

⑦ $\sqrt{V} = \frac{\delta S}{\delta \phi} \rightarrow \phi = \frac{\delta S}{\delta V} \Rightarrow$

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = 0.5 \quad \text{m.v.} = 0.5 \quad (11)$$

$$\textcircled{v \in N} \rightarrow v = 2n! - 1 = 1 - 2n! - 1 = 8 = 0$$

$$\textcircled{5} \quad 1/2(1 - 1) = 1 - 1 = 1/2(1 - 1) = (1/2)8$$

② نُجِدْ نَقْطَةَ الْإِنْفِطَافِ $P + \sqrt{6} - \sqrt{2} = 0$

$$\frac{24}{100}$$

120

$$1 + \sqrt{7} = \sqrt{8} \approx 2.828$$

المساحة = اتقى الضفاف = زاوية الاستطاف هو

ظلا هو = قد (۱)

$$C = P - P + r = 1 \Rightarrow P + (1)7 - (1)4 = 140 \text{ Lk}$$

②

۱۴) $\text{نہ ہفتہ} \in \text{نہ (ہفتہ)}$ $\subseteq$ $\text{نہ ہفتہ} - \text{نہ ہفتہ} \subseteq \text{نہ (ہفتہ)}$ $\subseteq$ $\text{نہ ہفتہ} - \text{نہ ہفتہ}$

[illegible]

$$\frac{7}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow 1 = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}$$

الفن (الفن) للفن (الفن) (5)

(۱۲) در مناقصه چه وقت باید بایع الحاق شود؟ و حق و دعوای او چیست؟

$$\frac{d}{dt} (x(t)) = x(t) - x(t) = 0$$

$$\oplus = \oplus + \oplus = \ominus \times \oplus - \oplus - \times \ominus =$$

9

لے کر سے لے کر

(۱۴) (تلفظ کے لئے قصہ قد (م) (محاسن اقصیٰ)

٥ - (٥)

فإنه لا يمكن فصل


سٽ ٻي (٢) $\delta = \frac{P}{c} - \sigma \sqrt{P} = (100) \text{ ن}$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$

$$\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$$

$$-2000 - 2000 \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow P = 0$$

$$\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow P = 0$$

$$\frac{1}{2} = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow P = 0$$



١٠٠٠ ن (١٠٠٠) $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$

$$\frac{1}{10} \times \frac{P}{c} - \frac{1}{10} \times \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow P = 0$$

١٠٠٠ ن (١٠٠٠) $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$

$$\frac{\sigma \sqrt{P} - \sigma \sqrt{P}}{(1 + \delta) \times P} = (100) \text{ ن} \Rightarrow \frac{\sigma \sqrt{P} - \sigma \sqrt{P}}{1 + \delta} = (100) \text{ ن}$$

$$\frac{P + \delta - P - \delta}{(1 + \delta)} = (100) \text{ ن}$$

$$\frac{\delta}{c} = \left(\frac{P}{c} \right) \times \left(\frac{P}{c} \right) \Rightarrow \frac{\delta}{c} = \left(\frac{P}{c} \right) \times \left(\frac{P}{c} \right)$$

$$\frac{\delta}{c} = \left(\frac{P}{c} \right) \times \left(\frac{P}{c} \right)$$

$$\frac{\delta}{c} = \frac{P + P \delta - \delta}{\frac{1}{c}} \Rightarrow \frac{\delta}{c} = \frac{P + P \delta - \delta}{\frac{1}{c}}$$

$$(c \geq P) \Rightarrow \delta = P \Rightarrow \delta = \frac{P \delta}{c} \Rightarrow$$

سٽ ٻي (٢) $\delta = \frac{P}{c} - \sigma \sqrt{P} = (100) \text{ ن}$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$

$$\frac{\delta + \sigma \sqrt{P} - \sigma \sqrt{P}}{(1 + \delta) \times P} = (100) \text{ ن}$$

١٠٠٠ ن (١٠٠٠) $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$ $\delta = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$

$$\frac{1}{c} = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0 \Rightarrow \frac{1}{c} = \frac{P}{c} - \frac{P}{c} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{1} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{2} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{3} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{4} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{5} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{6} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{7} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{8} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{9} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\text{س٣} \textcircled{10} \quad 1 + \delta = 0.4 \quad 6 \text{ س٣} = 6 \text{ س٣} = 6 \quad \frac{\partial S}{\partial \delta} \bigg|_{\delta=0} = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial \delta} \times \frac{\partial S}{\partial \delta} = \frac{\partial S}{\partial \delta}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{\partial S}{\partial \delta} = \frac{\partial S}{\partial \delta}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{\partial S}{\partial \delta} = \frac{\partial S}{\partial \delta}$$

$$2 \times 2 =$$


$$16 =$$

س٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين



ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين


ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين

ل٣ (P) دراسة متعل للدراسات المتعلين



سے (۲) سے حاصل کیا جاتا ہے کہ $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

یہ ΔPQR کا رقبہ ہے جو ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے

اسی طرح ΔPQR کا رقبہ ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \times \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \times \frac{1}{3} = 0$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \times \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \right) \times \frac{1}{3} = 0$$

۳۔ الغیر متجانس

سے (۲) سے حاصل کیا جاتا ہے کہ $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$


یہ ΔPQR کا رقبہ ہے جو ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

یہ ΔPQR کا رقبہ ہے جو ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$




(۱) $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

یہ ΔPQR کا رقبہ ہے جو ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

یہ ΔPQR کا رقبہ ہے جو ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے



یہ ΔPQR کا رقبہ ہے جو ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

یہ ΔPQR کا رقبہ ہے جو ΔABC کے رقبہ کا $\frac{1}{3}$ ہے

سؤال ٥) اكتب العلاقة بين $(P \rightarrow Q)$ و $(Q \rightarrow P)$ ثم اعتبر العلاقة بين $(P \rightarrow Q)$ و $(P \leftrightarrow Q)$

$$\begin{aligned} & \text{نلاحظ } (P \rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \\ & \text{نلاحظ } (Q \rightarrow P) \equiv (\neg Q \vee P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \\ & \text{نلاحظ } (P \rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \\ & \text{نلاحظ } (Q \rightarrow P) \equiv (\neg Q \vee P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \end{aligned}$$

سؤال ٦) اكتب العلاقة بين $(P \rightarrow Q)$ و $(P \leftrightarrow Q)$

$$\begin{aligned} & \text{نلاحظ } (P \rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \end{aligned}$$

نلاحظ $(P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

سؤال ٧) اكتب العلاقة بين $(P \rightarrow Q)$ و $(P \leftrightarrow Q)$ ثم اعتبر العلاقة بين $(P \rightarrow Q)$ و $(P \leftrightarrow Q)$

$$\begin{aligned} & \text{نلاحظ } (P \rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{نلاحظ } (P \rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \\ & \text{نلاحظ } (P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \end{aligned}$$